

Quranic Arabic Grammar

قرآنک عربک گرامر

Lesson - 5

شیخ ارشد بشیر عمری مدنی

Shaikh Arshad Basheer Umari Madani

Hafiz, Aalim, Faazil (Madina University, KSA), MBA.

Founder & Director of AskIslamPedia.com

Chairman: Ocean The ABM School, Hyd.

📞 +91 92906 21633 (whatsapp only)



الدرس الخامس

سبق

LESSON-5

النعته والمنعوت

01

Na't wal Man'oot
Nouns and its adjectives

Examples from Quran	Qur'aani Misaalein	قرآنی مثالیں
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . (النمل: ۳۰)	
	الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ . (الفاتحة: ۵)	
	وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ . (آل عمران: ۱۷۶)	
	وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ . (البقرة: ۲۵)	
	إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ . (البقرة: ۳۲)	
	إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ . (البقرة: ۳۷)	

(اساتذہ کے لئے برائے تذکیر)

موصوف صفت

موصوف: جس کی اچھی یا بری صفت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ موصوف کو منعت بھی کہتے ہیں۔
صفت: وہ تابع جو متبوع کی ذات یا اس کے متعلق کا وصف، یعنی اس کی اچھی یا بری صفت بتائے۔ صفت کو نعت بھی کہتے ہیں۔

موصوف صفت میں مطابقت:

صفت حقیقی اعراب (زبر، زیر، پیش، دو زبر، دو زیر، دو پیش)، مذکر و مؤنث، معرفہ و نکرہ، واحد و ثنویہ اور جمع میں اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے۔ جیسے: جاء رجلٌ عالمٌ
جبکہ صفت سببی کا صرف اعراب اور تعریف و تنکیر میں متبوع کا مطابق ہونا ضروری ہے۔
جیسے: جاءت المرأة العالمُ زوجها۔ اس میں المرأة موصوف اور العالم صفت سببی ہے۔
*یہ صرف بنیادی معلومات ہیں، تفصیلات مستقبل میں وضاحت کے ساتھ آئیں ان شاء اللہ۔

Arshad Basheer Madani Notes

ASAATIZA KE LIYE BARAAE TAZKEER

Mausoof Sifat

Mausoof: jiski achi ya buri sifat bayaan ki jaae ise mausoof kahte hain, mausoof ko man'oot bhi kahte hain.

Sifat: wo taabe' jo matboo' ki zaat ya us ke mutaliq ka wasf, ya'ni uski achi ya buri sifat batae, sifat ko na't bhi kahte hain.

Mausoof sifat me mutabaqat:

Sifat e haqeeqi e'raab (zer, zabar, pesh, do zabar, do zer, do pesh), Muzakkar O Muannas, Marifa O Nakira, Wahid wa tasniyah aur jama' me apne mausoof ke taabe' hoti hai. Jaise: rajulun aalimun

Jabke sifat e sababi ka sirf e'raab aur ta'reef o tankeer me matboo' ka mutabiq hona zaruri hai. Jaise: **جاءت المرأة العالم زوجها**
Isme al-mar'atu mausoof aur al-'aalimu sifat e sababi hai.

IRAAB

1. Fatah / Nasab/ tanween
2. zamma / Rafa/ tanween
3. Kasra / jarr / tanween

JINS (GENDER)


4. Muzakkar , 5. Muannas

AMM O KHAS (particular / common)

6. Marifa , 7. Nakirah

ADAD (COUNT)

8. Mufrad 9. Tasniyah , 10. Jama



Mausoof Sifat

Mausoof: The noun of whose good or bad characteristic is being described is called Mausooof. It is also called as Mano'ot

Sifat: It is the Characteristics or quality of the Mausooof (subject) being described whether it is Good or Bad sifat is also called as Na't.

Compatibility of Mausooof & Sifaat:

Sifaat haqeeqi is compatible with Mausooof in the following:

- The vowels (Eraab - diacritics) of the Sifaat in reality follows Mausooof in the following, (ZABAR – ZER – PESH – DO ZABAR – DO ZER – DO PESH)
(Fatah – Kathra – Dammah – Tanween Fatah – Tanween Kathra – Tanween Dammah)
- Gender (masculine – feminine)
- Definitive or Indefinite
- Number / Count (Singular – Dual – Plural)

Ex: جاء رجلٌ عالمٌ (jaa-a rajulun aalimun)

Whereas Sifat –e- Sababi – The Compatibility is only required in the Eraab (Vowels / Diacritics ending) and the condition of the nouns (Definite or Indefinite).

Ex: جاءت المرأةُ العالمُ زوجها (jaa-atil mar-atu al'aalimu zaujuha)

In this “Al Maratu” is Mausooof and “Al – Aalimu” is Sifat–e-Sababi.

VOWELS / DIACRITICS

1. Fatah / Nasab / Tanween
2. Dhammah / Raza / Tanween
3. Kathra / Jar / Tanween

GENDER

1. Male
2. Female

SPECIFIC

1. Definitive
2. Non Definitive

COUNT

1. Singular
2. Dual
3. Plural

Equality in nouns
and its objectives

Mutabaqat-e-mau'soof
& sifat

مطابقتِ موصوفِ وصفت

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

معرفه Maarifa Definite		نكرة Nakirah Indefinite		مطابقتِ موصوفِ وصفت Mutabaqat-e-mau'soof & sifat Equality in nouns and its adjectives												
مؤنث Mu'annas Feminine Gender	مذكر Muzakkar Masculine gender	مؤنث Mu'annas Feminine Gender	مذكر Muzakkar Masculine gender	رفع نصب جر	Vowel Signs Rafa, Nasab, Jarr	واحد Wahid Singular										
البناتُ الصالحاتُ	الولدُ الصالحُ	بناتُ صالحاتُ	ولدُ صالحُ				رفع	Vowel Signs Rafa, Nasab, Jarr	واحد Wahid Singular							
البناتِ الصالحاتِ	الولدِ الصالحِ	بناتًا صالحاتًا	ولدًا صالحًا				نصب			Vowel Signs Rafa, Nasab, Jarr	واحد Wahid Singular					
البناتِ الصالحاتِ	الولدِ الصالحِ	بناتٍ صالحاتٍ	ولدٍ صالحٍ			جر	Vowel Signs Rafa, Nasab, Jarr					واحد Wahid Singular				
البناتانِ الصالحتانِ	الولدانِ الصالحانِ	بناتانِ صالحتانِ	ولدانِ صالحانِ			رفع			Vowel Signs Rafa, Nasab, Jarr				ثنائية Tasniya Dual			
البناتَيْنِ الصالحَتَيْنِ	الولدَيْنِ الصالحَيْنِ	بناتَيْنِ صالحَتَيْنِ	ولدَيْنِ صالحَيْنِ			نصب					Vowel Signs Rafa, Nasab, Jarr			ثنائية Tasniya Dual		
البناتَيْنِ الصالحَتَيْنِ	الولدَيْنِ الصالحَيْنِ	بناتَيْنِ صالحَتَيْنِ	ولدَيْنِ صالحَيْنِ			جر						Vowel Signs Rafa, Nasab, Jarr			ثنائية Tasniya Dual	
البناتُ الصالحاتُ	الاولادُ الصالحونُ	بناتُ صالحاتُ	اولادُ صالحونُ			رفع							Vowel Signs Rafa, Nasab, Jarr			جمع Jama Plural
البناتِ الصالحاتِ	الاولادِ الصالحينِ	بناتٍ صالحاتٍ	اولادًا صالحينِ			نصب								Vowel Signs Rafa, Nasab, Jarr		
البناتِ الصالحاتِ	الاولادِ الصالحينِ	بناتٍ صالحاتٍ	اولادٍ صالحينِ			جر									Vowel Signs Rafa, Nasab, Jarr	

Arshad Basheer Madani Notes

Exercise : 1

Identify and write Adjective &
nounsMausoof aur sifat ko pahchaniye
aur maany likhiye

موصوف صفت کو پہچانے اور معانی لکھیے

معانی Maany - Meaning	موصوف صفت Mausoofsifat - Adjective & nouns	آیات Aayaat - Aayaat
		إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
		سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ
		وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
		اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
		التَّجْمُ الثَّاقِبُ
		فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا
		فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ
		نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ
		بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ
		بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
		فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
		جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا
		لِيَوْمٍ عَظِيمٍ
		فِيهَا سُرُورٌ مَرْفُوعَةٌ
		فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ. فِيهَا سُرُورٌ مَرْفُوعَةٌ. وَأَكْوَابٌ
		مَوْضُوعَةٌ. وَمَنَارِقٌ مَضْفُوفَةٌ. وَزَرَائِبٌ مَبْثُوثَةٌ
		وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ
		لِيَوْمٍ عَظِيمٍ
		فِيهَا سُرُورٌ مَرْفُوعَةٌ
		وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Exercises

التدريب

مشق

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

Exercise : 2

By using the below given words
make Adjective forms

Mindarja zel alfaaz ko istimaal
karke mausoof sifat banaeye

مندرجہ ذیل الفاظ کو استعمال کر کے موصوف
صفت بنائیے:

أخ	رسول	قلم	كتاب	قرآن
اقلام	كتابتان	اخوان	رسولان	قلمان
	كتب	اخوة	رسل	
_____ -3		_____ -2		_____ -1
_____ -6		_____ -5		_____ -4

Exercise : 3

Fill in the blanks using appropriate
Adjectives

Munaasib sifat ke zariye khana
puri kijiye

مناسب صفت کے ذریعہ خانہ پری کیجیے

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

(الجمیل الجميلة)	الساعة رخيصة	1.
(عالم العالمة)	عائشة مجتهدة	2.
(الرخيص الرخيصة)	الكتاب مفيد	3.
(الحمراء الأحمر)	الدجاجة مريضة	4.
(السوداء الأسود)	القلم ثمين	5.

Exercise : 4

Fill in the blanks using appropriate
Nouns for Adjectives

Munaasib mausoof ke zariye khana
puri kijiye

مناسب موصوف کے ذریعہ خانہ پری کیجیے

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

(القلنسوة القلم)	الجميل رخيص	1.
(التلميذ التلميذة)	المجتهد ناجح	2.
(الطعام الماء)	الليذ مفيد	3.
(القلنسوة المرسام)	السوداء ثمينة	4.
(القلنسوة الكراسة)	الطويلة جديدة	5.

Arshad Basheer Madani Notes

Translate 20 Aayats which are based on Adjectives from Sooratul Wakhiya

Suratul waqi'ah ki raushni me 20 mausoof sifat par mushtamil aayaat ma'a tarjama likiye

سورة الواقعة کی روشنی میں 20 موصوف صفت پر مشتمل آیات مع ترجمہ لکھیے۔

ترجمہ Tarjama - Meaning	آیات Aayaat - Aayaat	شمار
		1
		2
		3
		4
		5
		6
		7
		8
		9
		10
		11
		12
		13
		14
		15
		16
		17
		18
		19
		20

Translate and Identify the
Adjectives and Nouns

Tarjama kijiye aur mausoof wa
sifat ko pahchaniye

ترجمہ کیجیے اور موصوف و صفت کو پہچانیے

عن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

«إِنَّ ثَلَاثَةَ فِي بَيْتِي إِسْرَائِيلَ أَبْرَصٌ وَأَقْرَعٌ وَأَعْمَى بَدَأَ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا فَأَتَى الْأَبْرَصَ فَقَالَ أُمَّيْ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ لَوْ نَحَسَنُ وَجِلْدًا حَسَنٌ قَدْ قَدَّرَنِي النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ فَأَعْطَى لَوْثًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا فَقَالَ أُمَّيْ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْإِبِلُ. أَوْ قَالَ الْبَقْرُ هُوَ شَاةٌ فِي ذَلِكَ إِنَّ الْأَبْرَصَ وَالْأَقْرَعَ قَالَ أَحَدُهُمَا الْإِبِلُ وَقَالَ الْآخَرُ الْبَقْرُ - فَأَعْطَى نَاقَةً عَشْرَاءَ فَقَالَ يُبَارِكُ لَكَ فِيهَا وَأَتَى الْأَقْرَعَ فَقَالَ أُمَّيْ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ شَعْرٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا قَدْ قَدَّرَنِي النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ وَأَعْطَى شَعْرًا حَسَنًا قَالَ فَأَتَى الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْبَقْرُ قَالَ فَأَعْطَاهُ بَقْرَةً حَامِلًا وَقَالَ يُبَارِكُ لَكَ فِيهَا وَأَتَى الْأَعْمَى فَقَالَ أُمَّيْ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ يَزِدُّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصَرِي فَأُبْصِرُ بِهِ النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَزَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ قَالَ فَأَتَى الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْغَنَمُ فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالِدًا فَأَنْبِجَ هَذَانِ وَوَلَدَ هَذَا فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنْ إِبِلٍ وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ بَقَرٍ وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ الْغَنَمِ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الْأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مَسْكِينٌ تَقَطَّعَتْ فِي الْحَبَالِ فِي سَفَرِي فَلَا بَلَاغَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بَكَتُ أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْمِجْلِدَ الْحَسَنَ وَالْمَالِ بَعِيرًا أَتَبْلُغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِي فَقَالَ لَهُ إِنَّ الْحُقُوقَ كَثِيرَةٌ فَقَالَ لَهُ كَأَنِّي أَعْرِفُكَ أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْدِرُكَ النَّاسُ فَبَعَثَ إِلَيْكَ الْبَقْرَ فَقَالَ لَقَدْ وَرِثْتُ لِكَايِرٍ عَنْ كَايِرٍ فَقَالَ إِنْ كُنْتُ كَايِرًا فَصَبِّرْكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتُ وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلُ مَا قَالَ لِهَذَا فَزَدَّ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هَذَا فَقَالَ إِنْ كُنْتُ كَايِرًا فَصَبِّرْكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتُ وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مَسْكِينٌ، وَابْنُ سَبِيلٍ وَتَقَطَّعَتْ فِي الْحَبَالِ فِي سَفَرِي فَلَا بَلَاغَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بَكَتُ أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصْرَكَ شَاةً أَتَبْلُغُ بِهَا فِي سَفَرِي فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَزَدَّ اللَّهُ بَصْرِي وَفَقِيرًا فَقَدْ أَعْنَانِي فَمَا شِدْتُ فَوَاللَّهِ لَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ إِلَيَّ فَقَالَ أَمْسِكْ مَا لَكَ فَإِنَّمَا ابْتُلَيْتُمْ فَقَدَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ. (رواه البخاري في كتاب الوحي)

موصوف صفت کو پہچاننے اور کیفیت بتانے :

Mausoof Sifat ko pahchaniye aur kaifiyat bataayye :
Identify noun and adjectives and mention its case

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ (۸) لِسَعِيهَا رَاضِيَةٌ (۹) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (۱۰) لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً (۱۱) فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ (۱۲) فِيهَا سُرُرٌ
مَرْفُوعَةٌ (۱۳) وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ (۱۴) وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ (۱۵) وَزَرَّابِيُّ مَبْثُوثَةٌ (۱۶) (الغاشية)
إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (۱۲) إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ (۱۳) وَهُوَ الْعَفْوَرُ الْوَدُودُ (۱۴) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (۱۵) فَعَالٌ
لِّمَا يُرِيدُ (۱۶) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ (۱۷) فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ (۱۸) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ (۱۹) وَاللَّهُ مِنْ
وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ (۲۰) بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ (۲۱) فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ (۲۲) (البروج)

ترجمہ کیجیے اور موصوف صفت کو پہچاننے

Tarjuma kijiye aur mausoof sifat ko pahchaniye
Translate and identify noun and adjectives

بَنِي الرَّسُولِ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدَهُ مِنْذُ الْأَيَّامِ الْأُولَى لِدُخُولِهِ الْمَدِينَةَ الْمُنَوَّرَةَ. كَانَ الْمَسْجِدُ
التَّبَوِيُّ فِي عَهْدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدًا صَغِيرًا وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يَجْتَمِعُونَ فِي الْمَسْجِدِ التَّبَوِيِّ وَ
يَسْتَمِعُونَ إِلَى مَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَيَحْضُرُونَ الْعِلْمَ الدِّينِي وَيَتَحَدَّثُونَ عَنْ أُمُورِ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ فِي
الْحَلَقَاتِ الْعِلْمِيَّةِ -

























Vocabulary

Minshafah	مِنْشَفَةٌ	Saboon	صَابُونٌ	Shampoo	شَامْبُو	Qubba'ah	قُبْعَةٌ
							
Towel	توليه	Soap	صابن	Shampoo	شامپو	Hat	ہیٹ

Objects چیزیں الاشياء 07



Qalam Rasas	قَلَمُ رَسَاصٍ	Waraqah	وَرَقَةٌ	Miqas	مِقْصٌ	Soorah	صُورَةٌ
							
Pencil	پنسل	Paper	کاغذ	Scissors	قینچی	Picture	تصویر

Jawrab	جَوْرَبٌ	Malaabis	مَلَابِيسٌ	Me'taf	مِعْطَفٌ	Satrah	سِتْرَةٌ
							
Socks	موزے	Clothes	کپڑے	Coat	کوٹ	Jacket	جیکٹ
Sareer	سَرِيرٌ	Bantaloon	بَنْطَلُونٌ	Hizaa	حِذَاءٌ	Mizallah	مِظَلَّةٌ
							
Bed	پٹنگ	Pants	پٹنوں	Shoes	جوتے	Umbrella	چھتری
Koob	كُوْبٌ	Shawkah	شَوْكَةٌ	Furshat ul Asnan	فُرْشَاةُ الْأَسْنَانِ	Majoonul Asnan	مَعْجُونُ الْأَسْنَانِ
							
Cup	پیال	Fork	کانٹا	Toothbrush	دانتوں کا برش	Toothpaste	ٹوتھ پیسٹ
Mil'aqah	مِلْعَقَةٌ	Tabaq	طَبَقٌ	Asaas	أَسَاسٌ	Taawilah	طَاوِيلَةٌ
							
Spoon	چچ	Plate	پلیٹ	Furniture	فرنیچر	Table	ٹیل
Maktab	مَكْتَبٌ	kursee	كُرْسِيٌّ	Sikkeen	سِكِّينٌ	Sallajah	سَّلَاجَةٌ
							
Desk	میز	Chair	کرسی	knife	چاقو	Refrigerator	فریج
Jawwaal	جَوَّالٌ	Haatif	هَاتِفٌ	Saheefah	صَحِيفَةٌ	Qalam	قَلَمٌ
							
Mobile	موبائل	Telephone	ٹیلیفون	Newspaper	اخبار	Pen	قلم



Conversation

EMERGENCY

Emergency	اير جنسی	الطَّوَارِيءُ	ز	
Optional	English	اردو	Roman	عربي
مُمْكِن مُسَاعَدَة	Help!	میری مدد کیجیے	Saa'edni	سَاعِدْنِي
اِنْتِظِرْ شُوِي	Stop!	ٹھہریے	Tawaqqaf	تَوَقَّفْ
Fire!	Fire!	آگ	Naar	نَارُ
Thief!	Thief!	چور	Lis	لِصٌّ
رُخ مِنْ هُنَا بِسُرْعَة / سُرْعَة	Run!	بھاگو	Ijri / Fir	اِجْرِ / فِرْ
يَا نَابِمْ اِسْتَيْقِظْ	Watch out! (or: be alert!)	چوکتا رہیے	intabih	اِنْتَبِهْ
Call the police!	Call the police!	پولیس کو فون کیجیے	Ittasil bish-shurtah	اِتَّصِلْ بِالشُّرْطَة
Call a doctor!	Call a doctor!	ڈاکٹر کو کال کیجیے	Ittasil bit-tabeeb	اِتَّصِلْ بِالطَّبِيبِ
Call the ambulance!	Call the ambulance!	ایمبولنس کو فون کیجیے	Ittasil bil as'aaf	اِتَّصِلْ بِالْاَسْعَافِ
Are you ok?	Are you ok?	کیا آپ ٹھیک ہیں؟	Hal anta bikhair	هَلْ اَنْتَ بِخَيْرٍ؟
شُوِي تَعْبَانِ / ضِدَاعِ / اَلَمْ فِي الرِّاسِ / شُوِي مَرِيض	I feel sick	مجھے چکر آرہا ہے	Ash'oru biddauraan	اَشْعُرُ بِالْاِدْوَارَانِ

الطَّوَّارِئُ

Optional	English	اردو	Roman	عربی
أَبْغِي	I need a doctor	مجھے ڈاکٹر چاہیے	Oreedu tabeeban	أُرِيدُ طَبِيبًا
	Accident	حادثہ	Haadis	حَادِثٌ
	Peace	سلامتی	salamaat	سَلَامَاتٌ
	Food poisoning	زہریلی غذا	Tusammamu ghizaae	تُسَمِّمُ غَدَائِيٍّ
	Where is the nearest pharmacy?	سب سے قریب فارمیسی کونسی ہے؟	Ayna aqrab saidaliyyah?	أَيْنَ أَقْرَبَ صَيْدَلِيَّةٍ؟
	Its paining here	یہاں مجھے درد ہو رہا ہے	Hina yu'limuni	هِنَا يُؤَلِّمُنِي
مُهِّمٌ جَدًّا	It's urgent!	یہ ضروری کام ہے	Innahu amrun haam	إِنَّهُ أَمْرٌ هَامٌ
هَذُوْءٌ هَذُوْءٌ يَا شَيْخُ	Calm down!	پر سکون رہیے	Ehda' min fazlik	إِهْدَأْ مِنْ فَضْلِكَ
	You will be okay!	آپ ٹھیک ہو جائیگی	Saufa takoonu bikhair, la ba'sa tahoor in shaa Allaah	سَوْفَ تَكُونُ بِخَيْرٍ، لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ؟
مُمْكِنٌ مُسَاعَدَةٌ؟ / لَوْ سَمَّحَتْ	Can you help me?	کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں	Hal yumkinuka musaa'adati?	هَلْ يُمَكِّنُكَ مُسَاعَدَتِي؟
أَنَا مُمَكِّنٌ مُسَاعَدَةٌ	Can I help you?	کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں	Hal yumkinuni musaa'idatuk?	هَلْ يُمَكِّنُنِي مُسَاعَدَتُكَ؟

الْفَنَادِقِ وَالْمَطَاعِمِ وَالسَّفَرِ عُمُومًا



Optional	English	اردو	Roman	عربي
	I have a reservation (for a room)	میرے پاس بکنگ ہے	Mahjooz indee?	مَحْجُوزٌ عِنْدِي؟
	Do you have rooms available?	کیا آپ کے ہاں روم مل سکتا ہے	Hal ladaikum ghurafun musta'jirah?	هَلْ لَدَيْكُمْ غُرْفٌ مُسْتَأْجَرَةٌ؟
	With shower / With bathroom	شاور اور حمام کے ساتھ	Birrash – bilhammaam	بِالرَّشِّ – بِالْحَمَّامِ
	I would like a non-smoking room	میں غیر تمباکو نوشی والا روم چاہتا ہوں	Aureedu ghurfah lighairil mudkhineen	أُرِيدُ غُرْفَةً لِعَيْرِ الْمُدْخِنِينَ
	What is the charge per night?	ایک رات کا کتنا کرایہ ہے	Ma taklufa li lailatil waahida?	مَا تَكْلِفَةُ لِلَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ؟
	I'm here on business /on vacation	میں یہاں کام کے سلسلے میں آیا ہوں / چھٹیاں گزارنے آیا ہوں	Ana hina lil amal – ana hina fi ijazah	أَنَا هُنَا لِلْعَمَلِ – أَنَا هُنَا فِي إِجَازَةٍ
	Dirty	پراگندہ	Ghairu nazeef	غَيْرُ نَظِيفٍ
	Clean	صاف ستھرہ	Nazeef	نَظِيفٌ
	Do you accept credit cards?	کیا آپ کریڈٹ کارڈس قبول کرتے ہیں؟	Hal tuqabbiloona bitaqaatil-bunook?	هَلْ تَقْبَلُونَ بِطَاقَاتِ الْبُنُوكِ؟
	I'd like to rent a car	میں ٹیکسی چاہتا ہوں	Oreedu tajeer sayyarah	أُرِيدُ تَاجِيرَ سَيَّارَةٍ
	How much will it cost?	اس کا کتنا کرایہ ہے؟	Kam at-taklufa?	كَمْ التَّكْلِفَةُ؟

الْفَنَادِقِ وَالْمَطَاعِمِ وَالسَّفَرِ عُمُومًا

	A table for one / two please!	برائے مہربانی ایک / دو آدمی کے لیے میز چاہیے	Minzadah li shakhsin wahid min fazlik- minzadah li shakhsain min fazlik	مِنْصَدَّةٌ لِشَخْصٍ وَاحِدٍ مِنْ فَضْلِكَ - مِنْصَدَّةٌ لِشَخْصَيْنِ مِنْ فَضْلِكَ
فِي حَجَزٍ هُنَا	Is this place occupied?	کیا یہ میز لے لی گئی ہے؟	Hal hazal-kursi mahjooz?	هَلْ هَذَا الْكُرْسِيُّ مَحْجُوزٌ ؟
خَمْرٍ حَرَامٍ	I don't drink alcohol	میں شراب نہیں پیتا	Laa ashrabu alkahuliyaat	لَا أَشْرَبُ الْكُحُولِيَّاتِ
إِيْشْ هَذَا	What's the name of this dish?	اس ڈش کا نام کیا ہے	Masmu hazat tabaq	مَا اسْمُ هَذَا الطَّبَقِ ؟
تَعَالِ يَا سَيِّدُ / يَا أَجْنِي	Waiter / waitress!	ویٹر / ویٹرس	Naadil-naadila	نَادِلٌ - نَادِلَةٌ
فِي فَائِزَةٍ / سُرْعَةٍ فَائِزَةٍ	Can we give check?	کیا ہم چیک دے سکتے ہیں	Fazlan ahzirul fatoorah	فَضْلًا أَحْضِرِ الْفَائِزَةَ
لَدَيْدٌ / طَيِّبٌ / مَا شَاءَ اللَّهُ / الْحَمْدُ لِلَّهِ / سُبْحَانَ اللَّهِ	It is very delicious!	یہ بہت مزے دار ہے	Innahu lazeezun jiddan	إِنَّهُ لَدَيْدٌ جِدًّا
مَا فِي جَدِيدٍ / لَا أَبْغِي هَذَا	I don't like it	مجھے یہ پسند نہیں	Innahu la yu'jibuni	إِنَّهُ لَا يُعْجِبُنِي
فِي شُرُوطٍ	Shopping Expressions	شرائط خریداری	MuStalahaat at-tasawwuq	مُصْطَلَحَاتُ التَّسْوُقِ
بِكَمْ هَذَا / بِكَمْ رِيَّالَاتٍ	How much is this?	یہ کتنے کا ہے؟	Kam saman haaza?	كَمْ تَمَنُّ هَذَا ؟
بَسَّ عَادِيٍّ / شَفَّ فَقَطْ	I'm just looking	میں تو بس دیکھ رہا ہوں	Ana ulqi nazratan faqat	أَنَا أُلْقِي نَظْرَةً فَقَطْ
مَا عِنْدِي فِكَّةٌ / فِكَّةٌ مَا فِي	I don't have change	میرے پاس چلر نہیں	Laisa ladai fukkah	لَيْسَ لَدَيَّ فِكَّةٌ
عَالِي جِدًّا / كَثِيرٌ هَذَا	This is too expensive	یہ بہت مہنگا ہے	Haaza ghaali jiddan	هَذَا عَالِي جِدًّا
	Expensive	مہنگا	Ghaali	عَالِي
بَسِيْطٌ / أَمْوَرٌ بَسِيْطَةٌ / أَمْرٌ سَهْلٌ / مُمَكِّنٌ / خَلَاصٌ هَذَا	Cheap	ستا	Rakhees	رَخِيْصٌ


اِسْتِخْدَامُ يَوْمِي

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani



Daily Expressions	روزانہ کی گفتگو	اِسْتِخْدَامُ يَوْمِي	ط	
Optional	English	اردو	Roman	عربی
	What time is it?	وقت کیا ہوا؟	Kam assaa'ah alaan?	كَم السَّاعَةُ الْآنَ ؟
	It's 3 o'clock	تین بجے ہیں	Innaha as-saalisah	إِنَّهَا الثَّلَاثَةُ
	Give me this!	یہ مجھے دیجیے	A'tini haaza	أَعْطِنِي هَذَا
اَكِيد؟	Are you sure?	آپ کو اس بات کا یقین ہے؟	Hal anta muta'akkid	هَلْ أَنْتَ مُتَأَكِّدُ ؟
أَهْلًا أَهْلًا	Take this! (when giving something)	یہ لے لیں	Tafazzal haaza	تَفَضَّلْ هَذَا
جَوُّ جَمِيلٌ	It's freezing (weather)	موسم بہت ٹھنڈا ہے	Innal-jawwa baaridun jiddan	إِنَّ الْجَوَّ بَارِدٌ جِدًّا
جَوُّ بَارِدٌ	It's cold (weather)	موسم سرد ہے	Innal jawwa baaridun	إِنَّ الْجَوَّ بَارِدٌ
جَوُّ مُمْتَازٌ	It's hot (weather)	موسم بہت گرم ہے	Innal jawwa haarrun jiddan	إِنَّ الْجَوَّ حَارٌّ جِدًّا
أَعْجَبْتُكَ؟	Do you like this?	کیا آپ اسے پسند کرتے ہیں؟	Hal yo'jibuk?	هَلْ يُعْجِبُكَ ؟
عَجِبْتُ!!	I really like this!	میں اسے واقعی پسند کرتا ہوں	Innahu yojibuni fe'lan	إِنَّهُ يُعْجِبُنِي فِعْلًا
جَوْعَانٌ	I'm hungry	میں بھوکا ہوں	Ana jaae'un	أَنَا جَائِعٌ
ظَمَّآنٌ/عَطْشَانٌ	I'm thirsty	مجھے پیاس لگی ہے	Ash'auru bizzama'	أَشْعُرُ بِالظَّمِّ
مُضْحِكٌ! / أَضْحُوكُهُ!	He is funny	وہ مزاحیہ ہے	Innahu muzhik	إِنَّهُ مُضْحِكٌ
	In The Morning	صبح کے وقت	Fissabaah	فِي الصَّبَاحِ
	In the evening	شام کے وقت	Fil masaa'	فِي الْمَسَاءِ
	At Night	رات کے وقت	Lailan	لَيْلًا
سُرْعَةً يَا شَيْخَ	Hurry up!	جلدی کیجیے	Asre'	أَسْرِعْ

الْكَلِمَاتُ عِنْدَ الْإِزْعَاجِ



At the time of not comfortable

پریشانی کے وقت پر بولے جانے والے کلمات

الْكَلِمَاتُ عِنْدَ الْإِزْعَاجِ

ی

Optional	English	اردو	Roman	عربی
مَجْنُونٌ أَنْتَ / مَخُ مَا فِي	He is crazy	یہ پاگل ہے	Haaza majnoon	هَذَا مَجْنُونٌ
	O my lord! O Allah!	اے میرے مالک	Ya ilaahi	يَا إِلَهِي
عَلْظَانُ / مَا لَيْشُ / سَامِخِنِي / عَفْوًا / آسِفِينَ	Oh gosh! (when making a mistake)	افسوس	Aasif jiddan	آسِفٌ جِدًّا
مَوْلِمُ: خَلِّ وَوَلِّ / خَلِّ بِأَلْكَ / مُرْتَاخِينِ / حَزْبَانُ / عَظْلَانُ / كَسْلَانُ / تَعْبَانُ / مَا جَيِّدٌ	He is really bad	یہ تو بہت برا ہوا	Innahu shaiun sayyeun jiddan	إِنَّهُ شَيْءٌ سَيِّئٌ جِدًّا
	What's wrong with you?	آپ کو کیا ہوا؟	Ma baaluk	مَا بِأَلْكَ ؟
	Are you crazy?	کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟	Hal juninta?	هَلْ جُنَيْتَ ؟
خَلِّ وَوَلِّ / خَلِّ بِأَلْكَ / أَسْكُتْ / خَلَّاصُ / اِنْتَهِي / بَعْدَيْنِ	Leave me alone!	مجھے تنہا چھوڑ دو	utrunki wahdah	أَتْرِكْنِي وَحْدَةً
خَلِّ وَوَلِّ / أَشْ دَخَلْكَ أَنْتَ / خَلَّاصُ	I'm not interested!	مجھے دلچسپی نہیں	Lastu mohtamman	لَسْتُ مُهْتَمًّا



Optional	English	اردو	Roman	عربی
	Dear Khalid	میرے پیارے خالد	Azeezi Khalid	عَزِيزِي خَالِدُ
رَحْلَةٌ سَعِيدَةٌ / مُنْتَعَةٌ / مُرْتَاخٌ / مَا فِي مُشْكَلَةٍ / كُلُّ تَمَامٍ	My trip was very nice	میرا سفر بہت بہترین تھا	Kaanat rehlati jayyidatun jiddan	كَانَتْ رِحْلَتِي جَيِّدَةً جِدًّا
أَنَا فِي الْحَقِيقَةِ مُعْجَبٌ / فَرِحَانٌ!!	The culture and people were very interesting	میں اس شہر کی تہذیب اور یہاں کے لوگوں سے کافی محظوظ ہوا۔	Laqad istamta'tu haqqan bisaqafati haazal baladi wa sha'abiha	لَقَدْ اسْتَمْتَعْتُ حَقًّا بِثَقَافَةِ هَذَا الْبَلَدِ وَشَعْبِهَا
وَقْتُ طَيِّبٌ / سَاعَاتٌ جَمِيلَةٌ مَعَكَ / لَا أَنْسِي هَذِهِ الْأَيَّامَ	I had a good time with you	میں نے آپ کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا	Laqad istamta'tu ma'aka jiddan wa qazaina waqtan tayyiban	لَقَدْ اسْتَمْتَعْتُ بِالْوَقْتِ مَعَكَ جِدًّا وَقَضَيْتُنَا وَقْتًا طَيِّبًا
أَنَا آتِي مَرَّةً ثَانِيَةً	I would like to visit your country again	میں پھر ایک بار آپ کے شہر کا دورہ کرنا چاہتا ہوں	Auhibbu an azoora biladakum marratan saaniyah	أُحِبُّ أَنْ أَزُورَ بِلَادِكُمْ مَرَّةً ثَانِيَةً
لَا تَنْسَ فِي دُعَايِكَ / اسْتَمِرْ فِي الْمُواصَلَةِ / نَتَوَاصَلُ فِيمَا بَعْدُ / نَبْقِي عَلَيَّ اتِّصَال	Don't forget to write me back from time to time	آپ مجھے وقت پر خط لکھنا نہ بھولیں	La tansa an turasiluni min fatratin ila ukhra	لَا تَنْسَ أَنْ تُرَاسِلَنِي مِنْ فَتْرَةٍ إِلَى أُخْرَى

الحمد لله الذي
بنعمته تتم الصالحات

